



هيئة الطلاب المسلمين جموں و کشمیر

ہیڈ آفس: نوگام سرینگر Muslim Students Board J&K (MSB)

معهد اللغة العربية

مقرر برائے داخلہ امتحان (Entrance Test) اپریل 2025

پرچہ اول: درج ذیل کلمات کا ترجمہ ارود میں لکھنا۔ (ماخوذ از "تدریبات اللغة العربية" الجزء الأول)

کلمة	معنى	کلمة	معنى
أَجِبْ	جواب دو	مَلْحُوظَةٌ	تنبیہ
عَنْ	سے	يَسْتَعْلِمُ	استعمال کرنا
مُسْتَعْمِلًا	استعمال کرتے ہوئے	إِذَا	جب
مَا	جو	كَانَتْ	تھی
تَسْمَعُ	تو سنتا ہے (یا سنے گا)	طَالِيَةً	شاگردہ
تَحْتَ	نیچے	أَعِدْ	دہرانا
هُ	وہ (ایک مذکر)	الْآتِيَةِ	آنے والی
عَطُ	لکیر	مُسْتَعْلِمًا	استعمال کرتے ہوئے
اسْم	نام	الْغَيِّ	جو
هَا	وہ (ایک مؤنث)	كَمَا	جیسے
أَجْرُ	جاری کرنا (پورا کرنا)	الْأَمِيلَةِ	مثالیں
مُدْرَس	استاد	طَبِيبٌ	ڈاکٹر
مُشِيرًا	اشارہ کرتے ہوئے	مُحَاسِبَةٍ	اکاؤنٹنٹ (مؤنث)
إِلَى	تک	مُهَنْدِس	انجینئر
أَنَا	میں (مکالم)	لَا	نہیں
أَنْتَ	تو (ایک مذکر)	اسْتَبْدِلْ	تبدیل کرو
مَيَّ	وہ (ایک مؤنث)	يَسْأَلُ	پوچھنا
هُوَ	وہ (ایک مذکر)	هَذَا	یہ (ایک مذکر)
أَنْتِ	تو (ایک مؤنث)	سَعِيدٌ	خوش
صَدِيقِي	میرا دوست	هَذِهِ	یہ (ایک مؤنث)
كَ	تو (ایک مذکر)	الْحَقِيقِي	اصلی

اشارہ کرنا	يُشِيرُ	سے	بِـ
کلاس	الْفَصْلُ	ہاں	نَعَمْ
دوقوس ()	الْقَوْسَيْنِ	کیا	هَلْ
تبدیل کرنا	حَوَّلَ	مشق	تَدْرِيبُ
بیک	حَقِيبَةٌ	آنے والا	التَّالِيُ
گاڑی	سَيَّارَةٌ	خوش آمدید	أَهْلًا
کم (خالی)	النَّاقِصُ	خوشی کا موقع (لمحہ)	فُرْصَةٌ سَعِيدَةٌ
گفتگو	الْحَوَارِ	مشق	التَّمْرِينُ
درمیان/بچ میں	بَيْنَ	آپ کے تعارف سے	بِمَعْرِفَتِكَ
شہریت	جَنَسِيَّةٌ	کون	مَنْ
کیا	مَا	شروع کرنا	يَبْدُءُ
پیشہ	مِهْنَةٌ	لینا	يَتَلَقَّى
جواب دو	أَجِبْ	جوابات	اسْتِجَابَاتُ
کیا (سوال کے لئے)	هَلْ	صبح بخیر	صَبَاحَ الْخَيْرِ
سوڈانی	سُودَانِي	شب بخیر	مَسَاءَ الْخَيْرِ
پچاس سال کا	فِي الْخَمْسِينَ	(اگلی) ملاقات تک	إِلَى الْلِقَاءِ
سفر کرنے والا	مُسَافِرٌ	کسی/کون	أَيِّ
مدد لیتے ہوئے	مُسْتَعِينًا	خوش آمدید	مَرْحَبًا
ٹیونس	تُونِس	حفاظت	أَمَانٌ
پڑھو	اقْرَأْ	صبح روشن رہے	صَبَاحَ النُّورِ
بیان کرنا	يَذْكُرُ	لکھو	اَكْتُبْ
ہر ایک	كُلِّ	سامنے	أَمَامَ
آنے والی	قَادِمَةٌ	سلامت رہو	مَعَ السَّلَامَةِ
لیب	الْمُخْتَبَرِ	شہر	مَدِينَةٍ
ہسپتال	الْمُسْتَشْفَى	لاؤ	هَاتِ
آگرہ	أَكْرَا	اٹلی	إِيْطَالِيَا
کالج	الْكُلْبَةِ	کنیڈا	كَنَدَا
ساتھ	مَعَ	مراکش	مَغْرِبِ

إِنْدُونِيسِيَا	انڈونیشیا	إِضَافَةٌ	اضافہ
بَلَدٌ	شہر	جَامِعَةٌ	یونیورسٹی
إِمْلَا	پُر کرو	أَوْزَاقٌ	کافذات
الْفَرَاغُ	خالی جگہ	هَاجِي	وہ یہ ہے
سُورِيَا	شام (ملک کا نام)	صُورَةٌ	شکل
مُدِيرٌ	ڈائریکٹر	الْمُشْتَرِي	خریدار
مُغَيَّرًا	تبدیل کرتے ہوئے	كَمْ	کتنا
مَا يَلْزَمُ	جو ضروری ہو	جَرِيْدَةٌ	اخبار/رسالہ (میگزین)
ذَاهِبٌ	جانے والا	يُرِيْدُ	چاہتا
الْمَطْعَمُ	ریسٹورنٹ	بِكَمْ	کتنے میں
الرَّسَائِلُ	خطوط	مَا يَلِي	جو آنے والا ہے
الْمَحْمُوعُ	کل میزان	اسْأَلْ	پوچھو
عَدٌ	گنو	الصَّف	کلاس
مَكْتَبٌ	آفس/میز	عِنْدَكَ	تیرے پاس
مَطَارٌ	ایئرپورٹ	الْبَائِعِ	فروخت کرنے والا
نَافِذَةٌ	کمڑکی	الْمُفْرَدَاتِ	مختلف اشیاء (امور)
الشَّرِيْكَةُ	کمپنی	دَرَسَ	پڑھنا
طَلَبٌ	درخواست	شُكْرَاسَاتِ	کامیاں
مِنْ فَضْلِكَ	آپ کی مہربانی سے	نَحْنُ	ہم
الْأَرْقَامُ	نمبرات	لَوَازِمُ الْبَيْتِ	گھریلو چیزیں
اجْمَعُ	جوڑو (جمع کرو)	السَّبْتِ	سنچر
اطْرَحْ	تفریق کرو	الْأَحَدِ	اتوار
رُبَّ	چوتھائی	الْأَثْنَيْنِ	بہر
رِيَالٌ	سعودی کرنسی کا نام	الْفَلَكَاءِ	منگل
قِرْشٌ	پیسے	الْأَرْبَعَاءِ	بدھ
الْخَمِيْسُ	جمعرات	أَيَّنَ	کہاں
مُقَابَلَةٌ	ملاقات/انٹرویو	يَوْمِيَّ	روزانہ
مَسَاءٌ	شام	أُسْبُوعِيَّ	ہفتہ وار

الْأُسْبُوعُ	ہفتہ	شہری	ماہانہ
مَتَى	کب	سَنَوِيّ	سالانہ
تُعَلِّمُ	سکھاتا	تَقْصِدُ	چاہتا/ارادہ کرنا
تُكْتَبُ	لکھتا	الْعِيَادَة	او. پی. ڈی
التَّغْرِيدُ	رپوٹ	الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيّ	ہوم ورک
الْأُسْرَة	فیمل	الْمُمرَّضَة	نرس
الْقَرْيَة	گاؤں	الْحَارِس	چوکیدار
الْمُعْهَدُ	انسٹیٹ	الْبَيْتُ	گھر
الليلى	شبینہ (رات کا)	الْوَكِيلُ	نائب
يَوْمٌ	دن	الْفَدُ	کل (آنے والا)
النَّادِي	کلب	حَوْلُ	بدلو
يُجِيبُ	جواب دیتا	جِدًا	بہت
الْعُرْطُومُ	سوڈان کی راجدھانی کا نام/ ہاتھی کی سوڈ	تَأْخُذُ	پکڑنا
كُلُّ مَرَّةٍ	ہر دفعہ	الْقِطَارُ	ریل
تَفْعَلُ	کرنا	الْمُحَاضِرَة	لیکچر
تَلْهَبُ	جانا	تُقَابِلُ	ملنا
دَقَّتْ	کا پی	قَبْلُ	پہلے
الطَّائِرَة	جہاز	ظَهْرًا	دوپہر
الآنَ	اس وقت/ اب	مَوْعِدُ	مقرر شدہ وقت
السُّوقُ	بازار	الرَّحْلَة	ٹرپ
مَاذَا	کیا	مَدِينَة (ج: مَدْن)	شہر
أَكْمِلُ	پورا کرو	إِذْنُ	تب
أَيْسَفُ	افردہ	سَ	عنقریب
تُغَادِرُ	چھوڑنا/ چلے جانا/ روانہ ہونا	يَحْصِلُ	آنا/ پہنچنا
سَاعَة	وقت/ گھڑی/ گھنٹہ	الْيَابَانُ	جاپان
يَنْتَظِرُ	انتظار کرنا	تَحْضُرُ	حاضر ہونا
الشَّهْرُ	ماہ	تُسَمَّى	نام دینا
تَذْكِرَة	سفرکٹ	كَرَاتِشِي	کراچی

طَوَابِع	ذُاک تَمَلِیْس	أَحِبُّ	پند کرنا
الصُّحُف	اخبارات	أَمَّا كِن	جگہیں
الْمَجَلَات	رسالے (میگزین)	عَوْدَتُهَا	لوٹنا
ذَفَائِق	منٹ	الاستِرَاحَة	وقف آرام
الْوُصُول	پہنچنا	اسْتَعِیْن	مددلو
يُخْبِرُ	خبر دینا	يَتَّبِعِي	ختم ہونا
أَجْرَة	کرایہ	يَسْتَعْرِقُ	وقت لگنا
هَنا	یہاں	اللَّعِب	کھیل
مُوظَّف	ملازم	لَنْ	ہرگز نہیں
مَكْتَبُ الطَّيْرَان	ائر لائن آفس	انْفِ	منفی بنانا
تَتَأَخَّر	دیر کرنا	سَوْفَ	مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے
تَقُولُ	کہنا	يَرْكَبُ	سوار ہونا
تَعْرِفُ	جاننا	يُوجِعُ	واپس لوٹنا
لِ	کے لئے	شَاطِئِ	ساحل
الْبَحْر	سمندر	مِمَّ	کس سے
يَعْمَلُ	کام کرنا	الْعَصِيرُ	جوں
ثَلَاثُ	ایک تہائی	مَوْز	کیلا
يَتَنَاوَلُ	کھا لینا	تَفَاح	سیب
الْفُطُور	ناشتہ	سُكَّر	کھاڑ
الْفَدَاءُ	ظہرانہ (دوپہر کا کھانا)	نُحْبِزُ	روٹی
العشاء	عشائے (شام کا کھانا)	عَسَل	شہد
يَتَكَوَّنُ	مرکب ہونا	شَاي	چائے
دَحَاج	مرغ	مَمَك	مچھلی
مَكْرُونَة	ایک قسم کا کھانا	بَطَاطَس	آلو
عَضَار	سبزی	تَشْرَبُ	پینا
السَّلَاطَة	سلاد	الْحَلِيبُ	دودھ
خِيَار (واحد: خِيَارَة)	ککڑی، کھیرا	الْمُرَطَّبَات	مشروبات
طَمَاظِم	ٹماٹر	اللَّحْم	گوشت

چاول	الْأُرْزُ		
بھیڑ والا (لوگوں کی کثرت)	مُزْدَحِم	ترجیح دینا/ زیادہ پسند کرنا	تُفَضِّلُ
اسکول	الْمَدْرَسَة	اتار	الرُّمَان
ٹلا ہوا	الْمَقْلِي	ٹھنڈا	الْبَارِد
بھنا ہوا	الْمَشْوِي	سنترہ	الْبَرِّقَال
سوپ	حَسَاء	مٹائی	الْحَلْوَى
لیمو	لَيْمُون	اُنچٹ	مَعْهَد
انگور	الْعِنَب	زبان	اللِّغَة
انٹاس (پائٹن اپیل)	الْأَنَاس	میوہ	الْفَاكِهَة
بازلا، لومیا	قُول	چچہ	الْمِلْعَقَة
غیر	جُهْن	بیٹھنا	تَجْلِس
ایک قسم کی سبزی جو پکا کر کھائی جاتی ہے	مُلَوِّجِيَة	سونا	قَنَام
ہوٹل	فُنْدُق	کمرہ	الْفُرْقَة
اٹھا	يَبِض	بس	الْحَافِلَة
فراش بین	الْفَاصُولِيَا	خریدنا	تَشْتَرِي
مرچ	الْفِلْفِل	مرغ کا بھنا ہوا گوشت	الْكَبْسَة

پرچہ دوم: درج ذیل عبارتیں پڑھنا (نوٹ: ان کا ترجمہ داخلہ امتحان میں مطلوب نہیں ہے) (ماخوذ از

تدريبات اللغة العربية - الجزء الأول)

التدريب على القراءة

الموضوع الأول

سالم و صديقه

سالم مهندس و حسن طبيب.

سالم صديق حسن، و حسن صديق سالم.

سالم سعيد بمقابلة صديقه سالم.

هو سعيد بمقابلة صديقه. و صديقه سعيد بمقابله.

الموضوع الثاني

زينب و صديقتها

زينب مُدرّسة و نبيلة طبيبة. زينب صديقة نبيلة.

ونبيلة صديقة زينب. و زينب سعيدة بمُقابلة نبيلة.

زينب سعيدة بمقابلة صديقتها نبيلة. و نبيلة سعيدة بمقابلة صديقتها زينب.

هي سعيدة بمقابلة صديقتها.

وصديقتها سعيدة بمقابلتها.

الموضوع الثالث

هذا و هذه

هذا الرجل اسمه سالم، وهذه السيدة اسمها سلمى.

هو مهندس وهي مُهندسة.

هو يعمل في الشّركة وهي تعمل في الشّركة.

وهذا الرجل اسمه مصطفى.

وهذه السيدة اسمها سعاد.

مصطفى طبيبٌ وسُعاد طبيبة.

مُصطفى يَعْمَلُ فِي الْمُسْتَشْفَى، وسعاد تَعْمَلُ فِي الْمُسْتَشْفَى.

الطبيبُ يَعْمَلُ فِي الْمُسْتَشْفَى، المهندسُ يَعْمَلُ فِي الشَّرْكَة.

الموضوع الرابع

ماذا يُريد نبيل ؟

نبيلٌ راشدٌ مُحاسب. نبيلٌ راشدٌ مصريُّ الجِنسيَّة.

نبيلٌ راشدٌ مِن مِصر. هُو فِي الثَّلاثِينَ مِن عُمرِهِ.

هُوَ عِنْدَ مُدِيرِ الشَّرْكَة. هُو يَجْلِسُ فِي مَكْتَبِ مُدِيرِ الشَّرْكَة.

طَلَبُهُ عَلَى مَكْتَبِ الْمُدِيرِ. وَأوراقُهُ فِي حَقِيبَتِهِ.

نبيلٌ راشدٌ يُريدُ الْعَمَلَ فِي هَذِهِ الشَّرْكَة.

الموضوع الخامس

في المطار

أحمدٌ فِي الْمَطَارِ. هُو مُسافرٌ إِلَى بَارِيسَ.

أحمدٌ مَعَهُ حَقِيبَةُ السَّفَرِ.

سَمِيرَةُ فِي الْمَطَارِ أَيْضًا.

سَمِيرَةُ مَعَهَا حَقِيبَةُ جَمِيلَةٍ. هِيَ لَنْ تُسَافِرَ.

سَمِيرَةُ فِي انْتِظَارِ صَدِيقَتِهَا زَيْنَب. زَيْنَبُ قَادِمَةٌ مِنْ لَنْدُن.

الموضوع السادس

في المكتبة

فِي الْمَكْتَبَةِ جَرَائِدٌ وَ مَجَلَّاتٌ وَ كُتُبٌ وَ دَفَاتِرُ وَأوراقٌ وَأقلام.

الْجَرِيدَةُ بِنِصْفِ رِيَالٍ وَ الْقَلَمُ بِعَشْرَةِ قُرُوشَ.

يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي عَشْرَةَ أَقْلَامٍ بِخَمْسَةِ رِيَالَاتٍ، وَثَلَاثَ جَرَائِدَ بِرِيَالٍ وَ نِصْفَ.

وَيَشْتَرِي وَرَقَ الرِّسَالِ بِثَلَاثَةِ رِيَالَاتٍ.

المطلوب تسعة ريلاتٍ ونصف.

الموضوع السابع

أيامُ الأسبوع

في الأسبوع سبعة أيام ، السبتُ و الأحدُ و الاثنينُ و الثلاثاءُ و الأربعاءُ و الخميسُ و الجمعةُ .
يومُ السبتِ أذهبُ إلى السوقِ ، أَشْتَرِي لَوَازِمَ البيتِ .
وفي أيامِ الأحدِ و الثلاثاءِ و الخميسِ أَدْرُسُ في المَعْهَدِ اللَّيْلِي .
أَمَّا يَوْمُ الاثْنَيْنِ فَأَعْلَمُ صَدِيقِي العَرَبِيَّةَ .
ويومَ الأربعاءِ أَكْتُبُ التَّقْرِيرَ الأسبوعيَّ للشركة .
وَأَسَافِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ الأُسْرَةِ إلى قَرِينَتِنَا عَادَةً .
فَأَنَا مَشْغُولٌ كُلَّ الأسبوعِ .

الموضوع الثامن

في الموقف

ماذا يَنْتَظِرُ هذا الرَّجُلُ؟ هو يَنْتَظِرُ سَيَّارةَ الجامعةِ.
تَصِلُ سَيَّارةُ الجامعةِ فِي السَّاعَةِ الواحدةِ والثُّلثِ. (فِي السَّاعَةِ الواحدةِ و عِشْرِينَ دَقِيقَةً).
وَالسَّاعَةُ الآنَ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ و خَمْسُونَ دَقِيقَةً.
إِذَنْ سَوْفَ يَنْتَظِرُ طَوِيلًا. سَيَنْتَظِرُ نِصْفَ سَاعَةٍ.
هَذَا كَثِيرٌ. هُوَ يَأْخُذُ سَيَّارةَ أَجْرَةٍ.

الموضوع التاسع

استقبال

الْأُسْتَاذُ أَمِينٌ مُسَافِرٌ إِلَى لَنْدَنَ، هُوَ فِي عَمَلٍ.
سَيَنْتَهِي مِنْ عَمَلِهِ الْيَوْمَ، هُوَ لَنْ يَرْجِعَ الْيَوْمَ إِلَى بَلَدِهِ.
سَتَتَأَخَّرُ طَائِرَتُهُ وَتَصِلُ صَبَاحَ الْغَدِ، بَيْنَ التَّاسِعَةِ وَالْعَاشِرَةِ.
سَيَذْهَبُ صَدِيقُهُ مَحْمُودٌ إِلَى الْمَطَارِ لاسْتِقْبَالِهِ.

الموضوع العاشر

الطعام العربي

إدريس طالب غاني، يدرس اللغة العربية في السعودية.
وهو يحب الطعام العربي، ويفضل الكباب و السمك والرمان والتمر.
وهو يتناول ثلاث وجبات في اليوم.

ويأكل في الفطور الفول و المربي والعسل، ويشرب الشاي باللبن.
وهو يأكل في الغداء اللحم والخضار و الأرز والسلطة، وهو يحب الدجاج أيضا.
أما في العشاء فهو يتناول الخبز واللحم البارد و الجبن و البيض.

الموضوع الحادي عشر

خالد ينتظر صديقه فوزي في المطعم. خالد لا يطلب العشاء. هو في انتظار صديقه فوزي
يحضر بعد الموعد برُبْع ساعة.
فوزي آسف للتأخير.

يطلب خالد بعض السمك المقلي. أما فوزي فيحب السمك المشوي.
وبعد الأكل يشرب فوزي وخالد قهوة عربية.

الموضوع الثاني عشر

الأستاذ منصور

منصور مدرس أردني من عمان. عمره ثلاثون سنة. ويعمل في كلية اللغة العربية في جامعة
المملك عبد العزيز في جدة. هو أستاذ اللغة العربية هناك. عنده سيارة يركب سيارته كل
يوم في الساعة الثامنة صباحا ويذهب إلى الكلية يعلم اللغة العربية للصف الثاني و الصف
الثالث. يبقى في الكلية لمدة ست ساعات. وبعد ذلك يرجع إلى البيت.

بعد الظهر يذهب إلى أصدقائه أو إلى المكتبة للقراءة. ويوم الخميس من كل أسبوع يذهب
الأستاذ منصور بالسيارة إلى السوق. يشتري لوازم البيت. يوم الجمعة يأخذ أسرته بالسيارة
إلى شاطئ البحر. تستغرق الرحلة من البيت إلى شاطئ البحر نصف ساعة.

الموضوع الثالث عشر

عبدُ الله يُسافرُ إلى بلدته

عَبْدُ اللَّهِ يُسَافِرُ إِلَى قَرْيَتِهِ كُلَّ شَهْرٍ. يُسَافِرُ مَسَاءَ الْأَرْبَعَاءِ وَيَرْجِعُ صَبَاحَ السَّبْتِ هُوَ يَأْخُذُ تَذْكَرَةً ذَهَابٍ وَعَوْدَةً بِالطَّائِرَةِ ، وَقَبْلَ مَوْعِدِ الطَّائِرَةِ بِسَاعَةٍ يَذْهَبُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْمَطَارِ بِسَيَّارَةِ أُجْرَةٍ ، وَمَعَهُ حَقَائِبُ السَّفَرِ ، ثُمَّ يَرْكَبُ الطَّائِرَةَ وَيَصِلُ بَعْدَ سَاعَةٍ وَنِصْفٍ ، وَيُقَابِلُ الْأُسْرَةَ وَالْأَصْدِقَاءَ.

يَبْقَى عَبْدُ اللَّهِ فِي قَرْيَتِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُسَافِرُ صَبَاحَ السَّبْتِ وَيَرْجِعُ إِلَى عَمَلِهِ فِي الشَّرِكَةِ.

الموضوع الرابع عشر

مَطْعَمِي الْمُفْضَل

يَوْمَ الْخَمِيسِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ أَذْهَبُ إِلَى الْمَطْعَمِ ، وَأَتَنَاوَلُ طَعَامَ الْعِشَاءِ مَعَ أُسْرَتِي. وَهَذَا الْمَطْعَمُ فِي مَكَانٍ جَمِيلٍ ، وَطَعَامُهُ لَذِيذٌ.

فِي مَرَّةٍ أَكُلُ الْكَبَّابِ . وَفِي مَرَّةٍ أُخْرَى أَكُلُ السَّمَكِ. وَفِي مَرَّةٍ ثَلَاثَةٍ أَكُلُ الدَّجَاجِ مَعَ الْكَبَّابِ وَ أَكُلُ سَلْطَةَ خَضِرَاءَ ، وَمَعَ السَّمَكِ أُحِبُّ الْأُرْزَ ، أَمَّا مَعَ الدَّجَاجِ فَأُفْضِلُ الْحَسَاءَ. وَبَعْدَ الْأَكْلِ أَتَنَاوَلُ الْحَلْوَى ، ثُمَّ أَشْرَبُ قَهْوَةً عَرَبِيَّةً.

الموضوع الخامس عشر

سفر صديق

صَدِيقِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُسَافِرٌ إِلَى الْقَاهِرَةِ. هُوَ مُسَافِرٌ عَلَى طَائِرَةٍ سَعُودِيَّةٍ. هُوَ يَذْهَبُ إِلَى مَكْتَبِ الطَّيْرَانِ السَّعُودِيِّ وَيَأْخُذُ تَذْكَرَةَ السَّفَرِ.

فِي يَوْمِ السَّفَرِ يَذْهَبُ إِلَى الْمَطَارِ قَبْلَ الْمَوْعِدِ بِسَاعَةٍ وَنِصْفٍ.

يَضَعُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَقَائِبَ السَّفَرِ عِنْدَ مُوظَّفِ شَرِكَةِ الطَّيْرَانِ.

الْمَطَارُ مُزْدَحِمٌ ، هَذَا مُسَافِرٌ إِلَى الرَّبَّاطِ ، وَهَذِهِ مُسَافِرَةٌ إِلَى دِمَشْقَ ، وَهَذِهِ أُسْرَةٌ قَادِمَةٌ مِنْ كِرَاتِشِي. وَهَذِهِ طَائِرَةٌ مُسَافِرَةٌ إِلَى عَمَّانَ وَ طَائِرَةٌ أُخْرَى قَادِمَةٌ مِنْ دِمَشْقَ.

عبد الرحمن يجلس في صالة الانتظار بعض الوقت إلى موعد سفر الطائرة . ثم يركب الطائرة ويسافر .

الموضوع السادس عشر

عدنان في المكتبة

يذهب عدنان إلى مكتبة الكلية ثلاثة أيام في الأسبوع ، يذهب عدنان إلى المكتبة للقراءة . يوم السبت يقرأ بعض المجلات العربية . يوم الاثنين يقرأ في كتب اللغة ، أما يوم الأربعاء فيقرأ بعض القصص العربية .

يجلس عدنان في المكتبة ، ومعه قلم و دفتر ، يكتب الذي يحبه من المجلات أو الكتب أو القصص .

في البيت . يقرأ عدنان الذي في دفتره .

وقبل الدرس يذهب إلى الأستاذ و يقرأ عليه هذه الموضوعات .

عدنان يعرف اللغة العربية جيداً

پرچہ سوم : قرآن کریم پڑھنا ۔

امیدوار کے لیے لازمی ہے کہ وہ ناظرہ قرآن جانتا ہو۔ اس کا باضابطہ امتحان لیا جائے گا۔

درج ذیل عبارت کو تحریر کیجئے:

زینب مدرسه و نبیلة طيبة. زینب صديقة نبیلة.

ونبیلة صديقة زینب. وزینب سعدة بمقابلة نبیلة.

زینب سعدة بمقابلة صديقتها نبیلة.

ونبیلة سعدة بمقابلة صديقتها زینب.

هی سعدة بمقابلة صديقتها.

وصديقتها سعدة بمقابلتها.

درج ذیل اہم افعال کے معانی زبانی یاد کرو:

الفاظ	معنی	الفاظ	معنی
أَكَلَ	کھانا	سَكَّت	خاموش رہنا
أَخَذَ	پکڑنا	سَكَنَ	سکونت اختیار کرنا
أَتَى	آنا	سَأَلَ	پوچھنا
أَغْلَقَ	بند کرنا	شَرَبَ	پینا
اسْتَعْدَمَ	استعمال کرنا	ضَرَبَ	مارنا
اجْتَهَدَ	محنت کرنا	عَادَ	لوٹنا
انْتَهَى	ختم ہونا	عَرَفَ	پہچاننا
بَالَ	پیشاب کرنا	غَابَ	غائب ہو جانا
بَغَى	رونا	غَسَلَ	دھونا
بَاعَ	بیچنا	فَهِمَ	سمجھنا
تَرَكَ	چھوڑنا	قَامَ	اٹھنا
تَأَخَّرَ	دیر کرنا	قَطَعَ	کاٹنا
جَلَسَ	بیٹھنا	كَتَبَ	لکھنا
حَاوَلَ	کوشش کرنا	لَبَسَ	پہننا
حَصَلَ	حاصل کرنا	لَعِبَ	کھیلنا
حَضَرَ	حاضر ہونا	مَرَضَ	بیمار ہونا
حَفِظَ	یاد کرنا	مَاتَ	مرنا
دَخَلَ	داخل ہونا	مَنَعَ	روکنا
ذَهَبَ	جانا	نَصَرَ	مدد کرنا
ذَكَرَ	یاد کرنا	نَضَرَ	دیکھنا
رَجَعَ	لوٹنا	نَطَقَ	بولنا
رَفَعَ	اٹھانا	نَسِيَ	بھولنا
رَكَبَ	سوار ہونا	نَامَ	سونا
سَمِعَ	سننا	وَصَلَ	پہنچنا